

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سب جہازوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

جزا کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغضُوبِ

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ جن پر تیرا غضب نازل

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوتے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْمَّ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ ۝

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں

هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ

پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں

وَلِیْقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝

اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آتا رہا گیا آپ پر اور جو

أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

آپ سے پہلے آتا رہا گیا اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَئِكَ

وہی لوگ اپنے رب کے راستہ پر ہیں اور وہی

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (سورۃ بقرہ پ ۱)

نجات پانے والے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وَالهٰکُمْ وَاِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا مہربان

الرَّحِیْمُ ۝ اِنۡ فِیۡ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

نہایت رحم والا ہے بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات

وَاٰخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّتِیۡ

کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا

تَجْرِیۡ فِیۡ الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا

میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس

اُنزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْیَا بِہِ

پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے پھر اس سے مردہ

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے پلنے والے جانور پھیلا آتا ہے

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

درمیان حکم کا تابع ہے البتہ عقلمندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ (سورہ بقرہ پطع ۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تحاشنے والا نہ اس کو اذیت

سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

دبا سکتی ہے اور نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب

فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

اسی کا ہے ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے ہوا اس کے ہاں سفارش

بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝

حکمر کے معلومات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۝

اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ کو ان

حَفِظْهُمَا ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دونوں کی حفاظت کچھ کرانہیں کرتی اور وہی سب سے بڑی عظمت والا ہے۔ دین کے معاملہ میں

فِي الدِّينِ تَفًا ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّسُلُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

زبردستی نہیں ہے بیشک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ

اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا

لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

نہیں اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے اللہ ایمانداروں کا مددگار

آمَنُوا ۚ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

ہے (اور انہیں) اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں انہیں

مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے

النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (پہلے ۱)

ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنَّ

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور اگر

تَبَدَّلُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْا يَحْسِبُكُمْ

اپنے دل کی بات غامض کر دے گا یا چھپا دے گا اللہ تم سے اس کا

رَبِّهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ

حساب لے گا پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب

يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

کرے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ

رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے اور مسلمانوں

وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلِيْكَتِهِ

نے بھی مان لیا سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو

وَكِتٰبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ اَخَذْنَا مِنْكُمْ اٰمَانَ ۝

اور اسکی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے

مِّنْ رَّسُوْلِهِ قَدْ اَخَذْنَا مِنْكُمْ اٰمَانَ ۝

سے ایک نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا

غُفِرَ اَنْتَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

ہم تیری بخشش مانگتے ہیں لے ہلکے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے میں

يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا

کلیف دیتا اللہ کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اسی کے لیے ہے

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

جو نیک عمل کیا اور اسی پر ہے جو بُرا عمل کیا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو

إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا

اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری

إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

جیسا کہ رکھا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے ہوئے

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے ہمارے رب اور نہ اٹھاؤ ہم سے وہ چیز کہ ہمیں طاقت ہم کو اس کے اٹھانے کی

وَاعْفُ عَنَّا وَغُفْرَانًا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ

اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ہمارا مالک ہے پس مدد کر ہماری قوم کفار پر۔ (پت۔ اخیر سورہ بقرہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْمَلِكُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

اللہ ہی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہ ہمیشہ زندہ سب کو

الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

قائم رکھنے والا ہے اتاری اس نے آپ پر کتب برحق

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ

جو تصدیق کرنے والی ہے ان (کتابوں) کی جو اس سے پہلے ہوئیں اور نازل کی اس نے

وَالْإِنجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هَدَىٰ لِلنَّاسِ

تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

اور نازل کیا حق و باطل میں فرق کرینو والا بیشک جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں

اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

کے ان کے لیے عذاب ہے سخت اور اللہ زبردست ہے

ذُو انْتِقَامٍ ۝ (پت۔ سورہ آل عمران)

بدلہ لینے والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

شَهِدَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ

گواہی دے دی اللہ نے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسکے اور فرشتوں

وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور علم والوں نے بھی (اداکرہ) وہ قائم ہے انصاف پر نہیں کوئی معبود سوائے

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ

اس کے جو زبردست حکمت والا ہے بیشک دین تو اللہ کے نزدیک

الْإِسْلَامُ قَف ۝ (پت۔ سورہ آل عمران)

اسلام ہی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ، نہایت رحم والا ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ

کہیے اے اللہ مالک ملک کے تو ہی دیتا ہے حکومت

تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتَعْرِضُ

چاہے اور پھینکتا ہے سلطنت جس سے چاہے اور عزت دیتا

مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ فَبِيَدِكَ الْخَيْرُ

ہے جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب عبادت

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تَوَلِّجُ اللَّيْلَ

بیشک تو ہی ہے ہر چیز پر قادر تو داخل کرتا ہے رات کو

فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ذ وَ

دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ

نکالتا ہے زندہ کو مرے سے اور نکالتا ہے مرے کو

مِنَ الْحَيِّ ذ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

زندہ سے اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔

(پ - سورہ آل عمران)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً

پھر نازل کیا اُس نے تم پر بعد اس غم کے امن

نَعَّاسًا يَفُشِّي طَائِفَةً مِّنْكُمْ لَا وَطْأِفَةَ قُدِّ

یعنی اونگھ وہ دُعا پڑھی تھی ایک گروہ کو تم میں سے اور ایک گروہ وہ ہے کہ

أَهْتَهُمُ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

ان کو فکیر پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا اور ظن کر رہے تھے اللہ پر ناحق

ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ ط يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ

ظن جاہلیت کا وہ کہتے تھے کیا ہمیں بھی اس

الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنْ أُمِرْتُ بِاللَّهِ ط

کام میں کچھ اختیار ہے کہ دیکھیے بیشک سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط

وہ چھپاتے تھے اپنے جہی میں جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ کے سامنے

يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا

وہ کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہم کو بھی اس معاملہ میں کچھ اختیار تو نہ

قَتَلْنَا هَهُنَا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

قتل کیے جلتے ہم یہاں کہہ دیجیے اگر تم ہوتے اپنے گروں میں بھی

لَبَرَزْنَا الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى

تو ضرور باہر آجاتے وہ لوگ کہ مقدر ہو چکا تھا ان پر قتل ہونا طرف

مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ط

اپنے مقتلوں کے اور اس لیے کہ آزمائے اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اور تاکہ پاک کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (الاعلان پے)

حبیب سینوں کے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

بیشک تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں

وَ الْاَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی

اور زمین کو چھ دنوں میں پھر اس نے قرار پڑا

الْعَرْشِ تَفِیْ عِشْرِی الْیَلِ النَّهَارِ یَطْلُبُهٗ حٰثِیثًا

عرش پر وہ پردہ ڈالتا ہے رات پر دن کا جو اسکی تلاش میں دوڑا چلا آتا ہے

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرٰتٍ اِ

اور پیدا کیا سورج اور چاند اور ستاروں کو تابع اپنے

بِاَمْرِہٖ ط اِلَّا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ

حکم کے سوا اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑا ہی بابرکت ہے

رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ

اللہ پالنے والا سب جہانوں کا پکارو اپنے پروردگار کو بجز خودا کر اور

خَفِیَّةً ط اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۝

مخفی طور پر وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو

وَلَا تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا

اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں بعد اسکی درستگی کے

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

اور پکارو اس کو خوف اور امید سے بیشک رحمت اللہ کی

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورہ اعراف)

قریب ہے نیکو کاروں کے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

آچکا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے کہ شاق گزرتا ہے

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

اس پر اس پر تمہارا کلیف اٹھانا حد سے زیادہ چاہنے والا تھا ایمان والوں پر

رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

نہایت مہربان رحم کرنے والا پھر بھی اگر وہ اعرابن کریں تو کہہ دیجیے کافی ہے مجھے

اللَّهُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (اپنی سورہ توبہ آخری آیت)

بائیک عرش عظیم کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۝ أَيَّامًا

کہہ دیجئے پکارو اللہ (کہہ کر) یا پکارو رحمن (کہہ کر) کوئی سا زمانہ

تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا

پکارو - سو اسی کے سب نام اچھے ہیں اور نہ اڑھی آواز سے

بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ

ناز پڑھنے اور نہ بہت چپکے سے پڑھے اسکو اور تلاش کیجیے اس کے

ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بین میں راستہ اور کہ دیجیے سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس کی

لَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

نہیں کوئی اولاد اور نہ ہے اس کا کوئی شریک

فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَ

حکومت میں اور نہ کوئی اس کا حامی کار ہے بسبب کمزوری کے

كِبْرَهُ كَبِيرًا ۝ (اخیر سورہ نبی امرا)

اور بڑائی بیان کیجیے اس کی بہت۔ (پ ۱۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

کیا پس تم نے خیال کر لیا تھا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو بیکار اور کہ تم

إِلَيْنَا لَآتِرْجِعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ

ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے پس بہت بڑے اللہ بادشاہ

الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

حقیقی نہیں اور کوئی معبود سوائے اس کے مالک ہے عرش

الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

عظیم کریم کا اور جو پکارے ساتھ اللہ کے کسی اور معبود کو کہ

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۖ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اسکی سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ

ہے بلاشبہ صلاح نہیں پاتے کافر لوگ اور دعا کیجئے لے میرے رب!

اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (اخیر سورہ مؤمنین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وَالصَّفَاتِ صَفًا ۝ فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلَاتِ

اور تم ہے صف بانہے کھڑے ہونے والوکی۔ پھر ڈانٹنے والوں کی ڈپٹ کر پھر تلوادت کنوئوں

ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ

کی قرآن کے کہ بلاشبہ معبود تمہارا ایک ہے جو پروردگار ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اور پروردگار ہے تمام مشرقوں کا۔

إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۝

بیشک ہم نے زینت بخشی پہلے آسمان کو ایک آرائش یعنی ستاروں سے

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ

اور حفاظت کے لیے ہر شیطان سرکش سے وہ نہیں سُن سکتے

إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

عالم بالا کی باتیں اور شہاب پھینکنے جاتے ہیں ان پر ہر جانب سے

دُحُورًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خُطِفَ

بھگانے کے لیے اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی مگر جو اچک لے

الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِمُ

جاتے جھٹ تو اسکے پیچھے لگتا ہے شہاب چمکتا ہوا پس ان سے پوچھیے

أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۝ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ

کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان کا جن کو ہم نے پیدا کیا، بیشک ہم نے پیدا

مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝ (پ ۱۳ - شروع سورہ صفت)

کیا ان کو مٹی لیس دار سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْرٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب

الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا

شَدِيدِ الْعِقَابِ ۝ لَا ذِي الطُّوْلِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا

سخت عذاب دینے والا صاحب فضل - ہمیں کوئی معبود سوائے

هُوَ ط إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (پ ۱۴ - شروع سورہ مومن)

اس کے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

محمد رسول ہیں اللہ کے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سخت ہیں

عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا

کھتا رہتا ہے رحم دل ہیں آپس میں تو دیکھے گا انہیں کہ رکوع د

سَّجِدًا يَّبْتَغُونَ فِضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز

بخود کر رہے ہیں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط

ان کی شناخت ہے ان کے چہروں میں نشان سجدہ کا

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ يَشْبُهُهُ وَمَثَلُهُمْ فِي

یہی ان کا وصف ہے تورات میں اور ان کا وصف ہے

الْاِنْجِيلِ فِيْ كَزْرٍ اَخْرَجَ شَطْرَهُ فَازَرَهُ

انجیل میں مانند اس میتی کے جس نے نکالی اپنی توخیل پھر اسکو توی لڑایا

فَاسْتَفْلَظَ فَاَسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجَبُ

پس وہ موٹی ہو گئی پھر خوب تالم ہو گئی اپنی ڈنڈی پر لگی خوش کرنے

الَّذِيْنَ اَعْرَضَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَّ اللّٰهُ

کسانوں کو تاکہ غصہ دلائے انکی وجہ سے کفار کو وعدہ کیا اللہ نے

الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ

ان سے جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان میں سے

مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (انیرہ فتح پنا)

بخشش اور اجر عظیم کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَمْعُرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْطَعْتُمْ أَنْ

اے گردہ جنوں اور انسانوں کے اگر تم سے ہو سکے کہ تم

تَنْفِدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِدُوا

نیکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے تو نیکل جاؤ

لَا تَنْفِدُونَ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكُمْ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ

تم نیکل نہ سکو گے بغیر زور کے پس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی

تُكذِّبُونَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِرٌ مِّنْ

تم دونوں جھلاؤ گے چھوڑے جائیں گے تم پر مصلے آگ

ثِقَالٍ وَأَمْخَاسٍ فَلَا تُنصِرُونَ ۝ (پنا سورہ الرحمن ع)

کے اور دھواں پس تم پرچ نہ سکو گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو مخلوقات ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

بڑا غالب حکمت والا ہے اسی کے لیے ہے حکومت آسمانوں

وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اور زمین کی وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

پہلے سے ہے وہی اول اور آخر اور ظاہر

وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي

اور پوشیدہ ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پھر

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي

مقام ہوا عرش پر وہ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے

الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے اور جو اترتی ہے

السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُفُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ

آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں

مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

کہیں تم ہو اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ

اُیسی کیسے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يُرْجِعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ

لوٹائے جاتے ہیں سب امور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے

النَّهَارَ فِي الْيَلَدِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

دن کو رات میں اور وہ خوب جانتا ہے سچید سینوں کے

(شروع سوزِ حدیدہ - ۲۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ

اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے ہو

خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۖ وَتِلْكَ

کمر جھک جاتا پھٹ جاتا خوف سے اللہ کے اور یہ

اِلٰهٌ مُّثَالٌ نَّضْرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں انکو لوگوں کھیلے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ

وہی اللہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جاننے والا ہے

الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝

سب چھپی اور کھلی کا وہی ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ الْمَلِکُ

وہی اللہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وہ بادشاہ ہے

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِیْزُ

پاک ذات معبود سے بڑی امن دینے والا محافظ غالب

الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ ط وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

بڑا زبردست کبریائی والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ اس کے شریک ٹھہرتے ہیں

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا سب کا مُوجِد صورت بنانے والا اسی کے ہیں سب نام

الْحُسْنَى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اچھے تسبیح کرتی ہے اس کی جو مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پا۔ اخیر سورہ حشر)

اور وہی ہے غالب حکمت والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

کہ دیجیے کہ وحی کی گئی میری طرف کہ مٹا ایک گروہ نے جنوں میں سے

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي

ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا قرآن عجیب جو ہدایت کرتا ہے

إِلَى الرُّشْدِ فَاْمْتَابِهِ ط وَلِنُ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

نیکی کی طرف سو ہم ایمان لائے اس پر اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں گے اپنے رب

أَحَدًا ۚ وَآنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا

کا کسی کو اور کہ بلند ہے شان ہمارے رب کی نہ

اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۚ وَآنَّهُ كَانَ

اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا اور کہ

يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ (شروع سورہ جن)

کہا کرتا تھا ہم میں بیوقوف اللہ پر کفریہ کلمات ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا

کہہ دو اے کافرو! نہ تو میں تمہارے معبودوں کی

تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ

اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم

عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ

میرے معبود کی عبادت کرو گے تمہارے لیے تمہارا دین ہے

وَلِيَ دِينِ ۝

اور میرے لیے میرا دین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ

کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کوئی اولاد ہے

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

کہ دو بسم کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں اسکی مخلوقات کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ

اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور رگڑوں میں

النَّفَّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے

اِذَا حَسَدَ ۝

جب وہ حسد کرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝

کہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا لوگوں کے بادشاہ کی

اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

لوگوں کے معبود کی اس شیطان کے ڈر سے جو دوسرے ڈال کر چھپ جاتا ہے

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنْ

جو لوگوں کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

جنوں اور انسانوں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ ۚ

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا

اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام

تَسْلِیْمًا ۝ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

بیسو آپ کا رب پاک ہے عزت کا مالک

عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۝

ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو رسولوں پر

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا

اَللّٰهُمَّ یٰۤاَحِبِّبْ الْفُقَرَاءَ وَ یٰۤاَرِنِیْسَ

اے اللہ اے فقیریوں کے دوست اور اے غریبوں

اَلْفُرَبَّاءَ وَ یٰۤاَمُیْنِ الضَّعَفَاءَ وَ یٰۤاَعْظِیْمَ

کے ہمدرد اور اے کمزوروں کے مددگار اور اے سب سے بڑی

الرَّجَآءِ وَ یٰۤاَدَلِیْلَ الْمُتَحٰیرِیْنَ وَ یٰۤاَغِیَاثَ

امید اور اے راہبر متحیر لوگوں کے اور اے فریادرس

اَلْمُسْتَغِیْثِیْنَ یٰۤاَحْمٰی یٰۤاَقِیْمُ یٰۤاَحْتٰنُ

سند دلوں کے اے ہمیشہ زندہ اے سب سے بڑے دشمنوں کے اے مہربان کرنے والے

يَا مَنَانُ يَا اَللهُ يَا مُسَيَّبَ الْاَسْبَابِ يَا

اے احسان کنیزولے اے اللہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے اے

مُفْتِحِ الْاَبْوَابِ يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَارِ

دروازوں کو کھولنے والے اے دلوں اور آنکھوں کے پھیرنے والے

يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ

اے رات اور دن کے پیدا کرنے والے اے آسمانوں اور زمین کے

وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا

ایجاد کرنے والے اے صاحب عزت اور بزرگی کے اے

اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ط يَا خَالِقَ الْمَاءِ وَالطِّينِ

سب رحم کنیزالوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے پانی اور مٹی کے پیدا کرنے والے

وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى

اور رحمت بھیجی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سردار محمد پر اور ہمارے

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّنَا بِهَا

سردار محمد کی آل پر ایسی رحمتیں جو نجات پائیں ہم ان

مِنْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا

تمام خطروں اور آفتوں سے اور پوری کر ہماری

بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتَطَهِّرُنَا بِهَا

اس سے تمام حاجتیں اور پاک کر دے ہمیں اگلے ساتھ

مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ

تمام برائیوں سے اور بلند کر ہم کو اس کے ساتھ اپنے ماں

أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتَبَلَّغْنَا بِهَا أَقْصَا النِّجَايَاتِ

بہت بلند درجے اور پہنچا ہم کو ساتھ اس کے انتہائی مراد کو

مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَمَاتِ

سب اچھے کاموں میں اس زندگی میں جو موت کے بعد ہوگی

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ۙ

اللہ میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کی طرف بیشک اللہ دیکھنے والا ہے

رَبِّ الْعِبَادِ ۝

بندوں کو۔

محمد برکت علی لودھیانوی

المہاجر الی اللہ

والمترک علی اللہ العظیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يٰ اَحْمَدُ يٰ اَحْمَدُ
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کو ۱۰۰ (سو) بار اور شام کو ۱۰۰ (سو) بار کہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

اس کی گناہ مٹا دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

(عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ - الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ كِتَابُ الْعَمَلِ بِالسَّنَةِ ۷۰۱ اَوَّلُ ۱۸۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَعْرَافِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ
 لَّكَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

یہ درود شریف اور استغفار حضرت خواجہ خواجگان سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کا موروثی درود شریف ہے۔
 ہر نماز کے بعد کم از کم گیارہ بار ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد و فجر کے بعد کثرت سے پڑھیں۔

یواثیس محمد برکت علی لودھی انوی قدس سرہ العزیز

المہاجر الی اللہ والتوکل علی اللہ العظیم

المستفیض دار الاحسان چک ۲۴۲ (ب) (دسومہ) سمندری روڈ،

ضلع فیصل آباد، پاکستان۔ فون: ۶۷۹۹۰۰

اظہارِ حقیقت

یہ آیات حضرت مولوی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیں اور ہمیں ہمارے معزز و مکرم دوست، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحاج میاں خلیق احمد فاروقی، مرزا قلیج بیگ روڈ، جمشید کوارٹرز، صولتیہ منزل کراچی نے افادہ عام کے لئے شائع اور فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لئے تحفہ پیش کیں۔

ادارہ دارالاحسان اور ان آیات سے فیضیاب ہونے والے ان کے تہ دل سے ممنون ہیں۔

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فِي الدَّارَيْنِ . آمِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَيُّومِ

فَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ان آیات کو با وضو ایک ہی نشست میں مریض کے سر ہانے بیٹھ کر پڑھیں، انشاء اللہ شفا کی امید ہے۔ مریض اگر خود پڑھے تو فہم۔ اسی طرح عام مصائب و مشکلات سے نجات یا ان سے حفاظت اور حصول برکت کے لئے ان دعاؤں کو فجر و عصر کے وقت پڑھیں۔

محمد برکت علی لودھیانوی قدس سرہ العزیز